

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن 2020 میں ہیڈلائنر میجک (MAGIC) کے ساتھ میدان میں اتر رہا ہے!

برامپٹن، آن (3 دسمبر 2019) - ایک نئے عشرے کی شروعات ہونے والی ہے اور سٹی آف برامپٹن نے اس کی خوشیاں منانے کے لیے ایک براہ راست تفریح، ٹم ہورٹنز (Tim Hortons) کی جانب سے پیش کی جانے والی آتش بازیوں اور دیگر کئی خاندان دوست سرگرمیاں منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہے!

JUNO ایوارڈ ونگ بینڈ میجک! کا اعلان کرتے ہوئے سٹی کو انتہائی مسرت ہو رہی ہے، جو برامپٹن میں نیو اینرز ایوو کی تقریبات میں ہیڈلائنر کے طور پر جلوہ گر ہوں گے۔ شرکاء گارڈن اسکوائر میں بروز منگل، 31 دسمبر 2019 کو شام 8 بجے تا ادھی رات تک مفت براہ راست کنسرٹ سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

براہ راست تفریح

ڈی جے فزا (DJ Fizza) شام 8 بجے کس 92.5 (KISS 92.5) کے میزبان شیم (Shem) کے ساتھ تہوار کا آغاز کریں گی۔ جو لوگ نئے سال کا جشن ذرا جلدی منانا چاہتے ہوں، ان کے لیے آتش بازی کا پہلا مظاہرہ رات 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ براہ راست تفریح کا سلسلہ رات 9:15 پر شروع ہو جائے گا جس کے روح رواں ونگ نائٹ (Wing Night) ہوں گے، جو 90 کی دہائی کی کلاسیکی موسیقی میں خصوصی شہرت کے حامل برامپٹن کے اپنے ہرٹ لیک نیبرہڈ سے تعلق رکھنے والے GTA کے پریمیئر ہپ ہاپ اور R&B کور بینڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کینیڈین ریگے فیوژن بینڈ اور برامپٹن نیو اینرز ایوو 2020 کے ہیڈ لائنر میجک! رات 11 بجے کے بعد فوراً اسٹیج سنبھال لیں گے، جو رات بارہ بجے کی الٹی گنتی شروع ہونے تک اور آتش بازی کے دوسرے مظاہرے تک حاضرین کا لہو گرماتے رہیں گے۔

کچھ میجک کے متعلق!

میجک! لاس اینجلس پر مبنی ٹورانٹو میں نمو پانے والا ایک گروپ ہے جس نے موسم گرما کے مشہور گانے "رُوڈ" سے خوب شہرت کمائی - اس ریگے پاپ دھن کو پلبورڈ ہاٹ 100 میں 6 ہفتوں تک پہلے نمبر پر رکھا گیا اور اس کو 141 ممالک میں خوب پذیرائی حاصل ہوئی اور دس ملین سے زیادہ تعداد میں فروخت ہوا، 500 ملین سے زیادہ مرتبہ اسٹریم کیا گیا اور VEVO پر اس کو 1.3 بلین سے زیادہ بار دیکھا گیا ہے۔ اپنی مسحور کن آوازوں، بہترین نغمہ نگاری اور اپنی مثال آپ موسیقی کی بناء پر میجک! نے پچھلے پانچ سال کے دوران اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا ہے۔ اب میجک! نے اپنی نئی البم "ایکسپیکٹیشنز" (EXPECTATIONS) کے ساتھ دنیائے موسیقی میں دوبارہ قدم رکھا ہے، بشمول بلندیوں کو چھونے والے "کس می" (Kiss Me) اور ایکسپیکٹیشنز (EXPECTATIONS)۔

خاندان دوست سرگرمیاں

سٹی ہال میں خاندان دوست تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام شام 6:30 سے رات 9 بجے تک کیا گیا ہے، جس میں سٹی ہال ایٹریم میں ایک کڈز ڈانس پارٹی، ایک میجک شو، دستکاریوں اور فوٹوگرافی کے مواقع شامل ہوں گے۔ گیج پارک میں خاندانوں کے لیے اسکیتنگ ٹریل اور ہزاروں کی تعداد میں چمچماتی ونٹر لائیٹس سے لطف اندوز ہونے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خاندان جلدی پیش کیے جانے والے رات 9 بجے کے آتش بازی کے مظاہروں میں بھی شرکت کر سکیں گے۔

پہنچنے کا طریقہ

نیو اینرز ایوو کے موقع پر رات 7 بجے تا سروس کے اختتام تک برامپٹن ٹرانزٹ کے ذریعے مفت سفر کریں!

ایک ماحول دوست شہر کے طور پر، ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جہاں بھی ممکن ہو، برامپٹن ٹرانزٹ استعمال کریں۔

تقریب کے متعلق مزید معلومات، بشمول ٹرانزٹ کے شیڈول اور سڑکوں کی بندش، کے لیے www.brampton.ca/newyarseve ملاحظہ کریں۔ تقریبات کے بارے میں #BramptonNYE کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کریں۔

اقتباس

"اس سال نیو اینرز ایوو کے موقع پر لطف اندوز ہونے کی بہترین جگہ برامپٹن ہے! ہم ایک براہ راست تفریح، خاندان دوست سرگرمیوں اور آتش بازی کے ایک نہیں بلکہ دو مواقع جن میں پوری رات آتش بازی کے مظاہرے پیش کیے جائیں، کی میزبانی کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ برامپٹن میں منائی جانے والی نیو اینرز ایوو 2020 سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اگلے عشرے میں داخل ہوں!"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca | 905-874-3426